



## اسکول پر مبنی، MEDICAID/FAMIS اکثر پوچھے گئے سوالات:

معذور افراد کی تعلیم سے متعلق قانون (IDEA) انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) سے متعلق بعض خدمات کو Medicaid کے ذریعہ شامل کیے جانے اور آرلنگٹن پبلک اسکولز (APS) ورجینیا ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل اسسٹنس سروسز (DMAS) کو بل بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان خدمات میں جسمانی علاج، شغلی علاج، گویائی/زبان سے متعلق پیتھالوجی کی خدمات، ماہر انہ نرسنگ کی خدمات، ذاتی نگہداشت کے معاونین، خصوصی نقل و حمل، اور بعض تشخیصات شامل ہیں۔ Medicaid کو بل بھیجنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ APS والدین کی منظوری حاصل کرے۔

ذیل میں اسکول پر مبنی Medicaid پروگرام کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سوالات کی فہرست ہے۔

### 1. Medicaid/FAMIS کے دعووں کا بل بھیجنے کے لیے اسکولوں کو والدین کی منظوری کی کیوں ضرورت ہے؟

خاندان کے تعلیمی حقوق اور رازداری قانون (FERPA) کے تحت کسی معذوری والے طالب علم کے بارے میں معلومات کے افشاء کرنے سے قبل APS کے لیے والدین کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں Medicaid (DMAS) ایجنسی کو معلومات فراہم کرنا شامل ہے۔

### 2. APS کو میرے بچے کی IEP میں بیان کردہ خدمات کے لیے Medicaid/FAMIS کو بل بھیجنے کے لیے کتنی بار میری اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟

والدین کی اجازت صرف ایک بار درکار ہے۔ آپ کے بچے کے APS میں زیرتعلیم رہنے کے دوران، جب تک آپ کے بچے کو IEP کے مطابق مزید بل کرنے لائق خدمات حاصل نہ ہوں، یا اس وقت تک کے لیے، جب تک آپ منظوری منسوخ نہ کر دیں، اس وقت تک کے لیے اجازت جائز ہے۔

### 3. میرا بچہ Medicaid کے لیے اہل نہیں ہے۔ کیا مجھے ابھی بھی منظوری پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے؟

ہاں۔ اگر آپ کے بچے کو Medicaid کے لیے اہل ہونا چاہئے تو آپ کی منظوری فائل پر موجود ہوگی۔

### 4. اگر میں منظوری دیتا ہوں اور اپنا ذہن تبدیل کر لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟

والدین کی منظوری رضاکارانہ ہے اور اسے کسی بھی وقت منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ منظوری دیتے ہیں اور بعد میں اسے منسوخ کر دیتے ہیں تو، منسوخی ماضی سے لاگو نہیں ہوگی اور جب تک کے لئے منظوری تھپاس وقت تک انجام دی گئی خدمات کا بل (Medicaid (DMAS) ایجنسی کو بھیجا جائے گا۔ اگر آپ اپنی منظوری سے متعلق فیصلے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم Medicaid کے رابطہ کار سے ((228703-6065 پر رابطہ کریں۔

5. اگر میں منظوری نہیں دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟  
آپ کے بچے کا تعلیمی پروگرام IEP کی توضیحات کے مطابق اس کی تعلیمی ضروریات پر مبنی ہے۔ Medicaid/FAMIS کی منظوری کی صورت حال سے قطع نظر منظوری سے متعلق آپ کے فیصلہ سے کسی بھی صورت میں ان کے/کی خدمات پر اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ، منظوری سے انکار کرنے پر ڈسٹرکٹ کی ان فنڈز تک رسائی کی اہلیت متاثر ہوتی ہے جس سے معذوری والے طلباء کی تعلیم کو فائدہ ملتا ہے۔
6. اگر میرا بچہ Medicaid/FAMIS کے مفاد سے محروم ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟  
APS صرف ایسی صورت میں خدمات کے لیے بل بھیج سکتا ہے اگر بچے کی شناخت Medicaid/FAMIS کے مفاد حاصل کرنے والے کے طور پر کی جاتی ہے۔ Medicaid/FAMIS مفاد سے ان خدمات پر اثر نہیں پڑے گا جو آپ کا بچہ اسکول میں حاصل کرتا ہے۔
7. کیا Medicaid/FAMIS بلنگ کی وجہ سے میری رازداری کے ساتھ سمجھوتہ کیا جائے گا؟  
APS بالکل اسی انداز میں Medicaid کو بل بھیجے گا جیسے آپ کے ڈاکٹر بھیجتے ہیں۔ APS سخت وفاقی اور ریاستی قوانین کی پیروی کرتا ہے جو ہم سے آپ کی صحت کی معلومات کی رازداری کو برقرار رکھنے کا تقاضہ کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کی معلومات تک رسائی اس میں براہ راست شامل لوگوں تک محدود ہوتی ہے۔
8. کیا میرا نجی بیمہ متاثر ہوگا؟  
نہیں۔ APS آپ کے نجی بیمہ کو IEP سے متعلق خدمات کے لیے بل نہیں بھیجے گا۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ منظوری فارم پر دستخط کرنے سے نہ تو آپ کے نجی بیمہ کے مفاد میں نہ ہی ان دیگر Medicaid/FAMIS خدمات میں کمی ہوتی ہے جو آپ یا آپ کے خاندان کو حاصل ہوتی ہیں۔
9. کیا اسکول کی بلنگ میں سیشنز کی اس زیادہ سے زیادہ تعداد کو شمار کیا جائے گا جس کی اجازت میری نجی خدمات کے لیے ہے؟  
نہیں۔ جب APS باز ادائیگی حاصل کرتا ہے تو، ان سیشنز سے، نجی خدمات حاصل کرتے وقت اجازت یافتہ زیادہ سے زیادہ سیشنز کی تعداد متاثر نہیں ہوتی۔ کسی باہری پریکٹیشنر سے حاصل Medicaid/FAMIS خدمات کو اسکول کی سیٹنگ میں فراہم کردہ خدمات سے الگ اختیار دیا جاتا ہے۔
10. Medicaid کے لیے اسکولی نظام کے ذریعہ بل کیوں بھیجا جاتا ہے؟  
بلنگ سے طلباء کو فراہم کردہ لاگتوں کی تلافی میں مدد ملتی ہے۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو، براہ کرم Medicaid کے رابطہ کار، کیتینا کلانٹر (Catina Claytor) سے رابطہ کریں۔

1426 N. Quincy Street  
Arlington, VA 22207  
(703) 228-6065  
[catina.claytor@apsva.us](mailto:catina.claytor@apsva.us)